

32752 - ویڈیو کیسٹوں کی خرید و فروخت، ٹیلی ویژن اور ویڈیو پسند کرنا

سوال

کیا ویڈیو اور آڈیو کیسٹیں فروخت کرنا حرام ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جب ویڈیو اور آڈیو کیسٹیں حرام اشیاء سے خالی ہوں تو انہیں فروخت کرنا، سننا اور دیکھنا اور انکی خریداری مباح ہے۔

حرام سے مقصود یہ ہے کہ: وہ کیسٹیں فسق و فجور یا موسیقی یا پھر بازاری اور بے حیاء عورتوں کی تصاویر پر مشتمل ہوں، اور اسی طرح اگر وہ کیسٹیں کفر و بدعت اور شرک پر مبنی ہوں تو حرام ہیں، لیکن جو ان کیسٹوں میں پائے جانے والے کفر و شرک کے مواد کا رد کرنا چاہے اور وہ اس رد کا اہل بھی ہو تو اس کے جائز ہیں۔

مستقل فتویٰ کمیٹی سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا:

کیا گانوں کے کیسٹیں فروخت کرنا جائز ہیں، مثلاً ام کلثوم اور فرید اطرش اور اس طرے کے دوسرے فنکاروں کی کیسٹیں؟

کمیٹی کا جواب تھا:

(یہ کیسٹیں فروخت کرنی حرام ہیں، کیونکہ اس میں پائی جانی والی موسیقی اور گانے حرام ہیں اور ان کا سننا بھی حرام ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ انہوں فرمایا:

" بلاشبہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس کی قیمت بھی حرام کر دی ہے ") انتہی .

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (13 / 48)

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان ویڈیو کیسٹوں کی تجارت کے بارہ میں سوال کیا گیا جن میں بے حیاء قسم کی عورتیں ہوں، اور اس میں پیار و محبت اور عشقیہ جنون کے قصص ہوں، اور کیا تاجر کا مال حرام ہے، اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور ان کیسٹوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

(ان کیسٹوں کو فروخت کرنا اور ان پر راضی ہونا، اس میں جو کچھ ہے اسے دیکھنا اور سننا حرام ہے، کیونکہ یہ فتنہ و فساد کی دعوت دیتی ہے، ان کیسٹوں کو ضائع کرنا اور انہیں دیکھنے والوں کو روکنا واجب اور ضروری ہے، تا کہ فساد اور خرابی کے مادہ کو ختم اور مسلمانوں کو فتنہ و فساد کے اسباب سے پاک کیا جاسکے)

دیکھیں: فتاویٰ اسلامیہ (2 / 369) .

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے گانے بجانے اور موسیقی اور بے ہودہ اور عشقیہ و محبت و غرام اور فحش کلام پر مشتمل اور فساد، اور دو جنسوں کے مابین اخلاق رذیلہ عام کرنے پر مشتمل کیسٹوں اور اس طرح کی کیسٹیں فروخت کرنے والوں کو دوکان اور جگہ وغیرہ کرایہ دینے کے متعلق سوال کیا گیا.

تو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

اگر تو یہ کیسٹیں موسیقی اور ہر قسم کے گانے بجانے پر مشتمل ہوں جو آپ نے ذکر کیا ہے اور فسق و فساد اور دونوں جنسوں کے مابین اخلاق رذیلہ اور عشق و محبت اور گری اور سوختہ کلام پر مشتمل ہوں تو کوئی بھی عقلمند شخص چہ جائیکہ مومن اور مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھنے والا ہو، اس میں شک نہیں رکھتا کہ ان کیسٹوں کو سننا اور خریدنا حرام اور برائی ہے، کیونکہ یہ اخلاق اور معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور امت کے عام اور خاص سب کو سزا اور عذاب کا مستحق قرار دینے کا باعث بنتی ہیں.

لہذا جس شخص کے پاس بھی ان کیسٹوں میں سے کچھ ہو اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرے، اور ان کیسٹوں میں جو کچھ ہے اسے صاف کر کے اس میں کوئی اور فائدہ مند چیز تقریر وغیرہ ریکارڈ کر سکے.

اور ان کیسٹوں کی تجارت اور فروخت سے حاصل کردہ مال حرام ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کردی "

اور رہا مسئلہ اس قسم کی کیسٹوں وغیرہ کے لیے دوکان اور مکان کرایہ پر دینا تو یہ بھی حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اس سے حاصل کردہ کرایہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ برائی و گناہ اور ظلم و زیادتی میں تعاون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

اور تم برائی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو

اور ان کیسٹوں کی خریداری کرنے والوں کا گناہ خریدار پر ہے، اور یہ بعید نہیں کہ فروخت کرنے والا اور کرایہ پر دینے والا شخص بھی ان خریداروں کے گناہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے اور خریدار کے گناہ میں کچھ بھی کمی نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

دیکھیں: فتاویٰ اسلامیة (2 / 370).

اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے کہ:

اگر آپ ٹیلی ویزن اور ویڈیو پر کنٹرول کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور اسے صرف دینی اور علمی تقاریر و دروس اور قرآن مجید کی تلاوت اور تجارتی و سیاسی خبریں وغیرہ مباح امور دیکھیں اور سنیں تو پھر ٹیلی ویزن اور ویڈیو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں.

اور اگر ایسا نہ کرسکیں اور آپ کا کنٹرول نہ ہو تو پھر گھر میں ویڈیو اور ٹی وی رکھنا جائز نہیں، کیونکہ ان کے خریداروں میں اکثریت ایسی ہے جو اسے کھیل تماشہ اور حرام کاموں میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسے ضائع کردیں تا کہ شرو برائی سے چھٹکارا حاصل ہو اور اس میں آپ کو بھی اجروثواب حاصل ہو گا، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جس کے بارہ میں ظن غالب یہ ہو کہ وہ انہیں مباح اور حلال اشیاء میں استعمال کرے گا تو یہ دونوں اشیاء ایسے شخص کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (13 / 46).

واللہ اعلم .